

کاف (ک) حرف تشبیه

Assimilation / Comparison

کاف (ک)، (مانند، جیسے، کی طرح): (like, as, resembling) ک، کاف

کاف (ک) حرف جر ہے۔ اس کے کئی استعمال ہیں۔ ک حرف تشبیه کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (ک) کا اردو معنی ان الفاظ سے کیا جاتا ہے، (مانند، جیسے، کی طرح)

Kaf is the letter of jer . It has many uses. The letter K is used for resemblance. In urdu (ک) is translated as (like,as, resembling)

کاف (ک) چونکہ حرف جر ہے اس لیے اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے۔

The word "KAAF" is a Herf Jer (preposition), and the noun following it is Majrur.

یہ (ک) ضمیر کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اَنَا كَهْ (میں اس جیسا ہوں)

This preposition is not used with pronouns. So we do not say, اَنَا كَهْ (I am like him.)

ایسی جگہوں پر کاف (ک) اور ضمیر کے درمیان لفظ "مثلاً" استعمال ہوگا۔

In such cases, the word " مَثَلٌ " is added between the preposition and the pronoun:

هُوَ كَمِثْلِي (وہ مجھ جیسا ہے)

(He is like me.)

أَنَا كَمِثْلِهِ (میں اس جیسا ہوں)

(I am like him.)

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ (24:35)

اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو

Allah is the Light of the heavens and the earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (42:11)

اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے

There is nothing like unto Him, and He is the Hearing, the seeing.

﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ (101:04)

جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے

It is the Day when people will be like moths, dispersed,